

عزیز رہائشی

ہم آپ کو آج نمائشی ایکٹیو ٹریول اسکیم لیونزیوم زیوم (Levenshulme Active travel scheme) کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ یہ آزمائشی اسکیم پیدل چلنے والوں، سائیکل سواروں اور معذوروں کی چھوٹی گاڑیوں کی نقل و حرکت کو محفوظ بنانے کے لئے چلائی گئی تھی۔ یہ نمائشی رکاوٹیں (filters) آزمائشی طور پر لگائی گئی ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مستقل بنیادوں پر لگائی جائیں تو آپ کو کونسل کو آگاہ کرنا پڑے گا۔ ہمارے لئے اطمینان اور خوشی کی بات ہے کہ کچھ گلیاں جن میں فلٹرز لگائے گئے ہیں گاڑیوں کی اضافی آمدورفت سے محفوظ ہیں۔ ہم مزید منصفانہ اور شفاف اسکیم چاہتے ہیں جن میں مزید گلیاں اور پیدل گزرگاہیں شامل کی جائیں۔ یہ آزمائشی اسکیم چند ماہ کے لئے چلائی گئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اسکیم بہتر وسائل کے ساتھ چلائی جائے تو آپ کو کونسل سے رابطہ کر کے آگاہ کرنا پڑے گا۔

ٹریفک کی آمدورفت میں کمی اور اہم سڑکوں پر گزرگاہیں

اس اسکیم سے نا صرف اس علاقے کے رہائشی بلکہ ان لوگوں کے لئے بھی فائدہ مند ہو گی جو روزانہ یہاں سے سفر کرتے ہیں۔ بہتر اقدامات میں مزید پیدل گزرگاہیں، رفتار کی حد اور ٹریفک کو کم کرنے کے اقدامات شامل ہیں۔ آپ کے علاقے میں یہ خاص طور پر کروم ویل گروو (Cromwell Grove) اور بروم لین (Broom Lane) کے لئے ضروری ہے۔ اسٹریٹ فور پیپل (Street for People) کی درخواست میں مانچسٹر سٹی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ اہم سڑکوں پر کاروائی کی جائے۔

نمائشی رکاوٹیں

ڈیلامیر روڈ (Delamere Road)، گورڈن ایونیو (Gordon Ave)، کارڈیس اسٹریٹ (Cardus Street)، ہینڈیرسن اسٹریٹ (Henderson Street)، ڈورسیٹ روڈ (Dorset Street) اور مولینکس اسٹریٹ (Molyneux Road) پر فی الوقت یہ نمائشی فلٹرز لگائے گئے ہیں۔ کونسل کے ساتھ حالیہ مشاورت میں چیپل اسٹریٹ (Chapel Street)، کرے فیلڈ روڈ (Crayfield Road) اور مارلے روڈ (Marley Road) پر فلٹرز لگانے کی پیشکش بھی کی گئی۔ کونسل نے آگاہ کیا ہے کہ ان فلٹرز کا علاقے کے رہائشیوں نے خوش آئند قرار دیا ہے لیکن ان کو لگانے کے لئے سڑکوں میں تھوڑی ردوبدل کی ضرورت ہے۔ کونسل کب اور کیسے یہ کام کرے گی ابھی اس کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں دی گئی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ یہاں نصب کئے جائیں آپ کو کونسل کو آگاہ کرنا ہو گا۔ بہر طور آپ دیکھ چکے ہیں کہ مزید فلٹرز نصب کرے سے کیا بہتر تبدیلیاں آئیں گی۔ چھوٹی کم آمدورفت کی گلیوں کے بجائے اس نیٹورک کو وسعت دی جائے اور اسے سائیکل سواروں اور پیدل چلنے والوں کے لئے محفوظ بنایا جائے۔

اس طرح چیپل اسٹریٹ (Chapel street) اور ایس ٹی اینڈریو اسکول (St Andrews Primary School) کی طرف جانے والے راستے پیدل چلنے والوں کے لئے محفوظ ہو جائیں گے

تعاون کی اپیل

اگر آپ مزید بہتر اقدامات چاہتے ہیں تو اس درخواست پر دستخط کریں
<https://streetsforpeople.co.uk/>

اگر آپ یہ عارضی فلٹرز مستول رکھنا چاہتے ہیں تو اس لنک پہ جائیں
<https://levenshulmeandburnageactiveneighbourhood.commonplace.is/>

اور 'Have your say' پہ کلک کریں اور دونوں حصوں کو بھریں اور اپنی رائے دیں
اپنے علاقے کے فلٹرز کے بارے میں ؛
دیجئے رائے کی آپ پر اسکیم ساری اس 'Have your say'
فیز ۱ 'Have your say' ٹرائل اور فلٹرز کے بارے میں

اگر آپ رضامند ہیں چیپل اسٹریٹ ، کرے فیلڈ روڈ اور مارلے روڈ پہ ایک اضافی
فلٹر کے لئے تو کونسل کو درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ کریں
Levyburnageproject@manchester.gov.uk


شکرگزار

اسٹریٹ فور پیپل لیوینزیوم اور برنیج


اسٹریٹ فور پیپل ایک ٹیم (جماعت) جو کہ یہاں کے رہائشی لوگوں پر مشتمل ہے جو
ہماری گلیوں کو پیدل چلنے والوں کے لئے محفوظ بنانا چاہتے ہیں

<https://streetsforpeople.co.uk>

موجودہ منصوبہ



مزید پیدل گزر گاہوں اور مزید رکاوٹوں (filters) کا منصوبہ



جہاں سے اضافی گاڑیوں کی آمد و رفت نہ ہو بغیر ٹریفک کے گلیاں



ماڈل فلٹرز



پیدل گزرگاہ



پیدل چلنے والوں کے لئے راستہ



تجاویز شدہ چوک/گزرگاہ